




5290CH06

اکانی - VI

میڈیا کے لیے لکھنا - II



باب : 1 برقراری ابلاغ (ایکٹرائیک میڈیا) سے متعلق تحریروں کا مختصر تعارف

1.1 برقراری ابلاغ

1.2 ذراائع ابلاغ کی تاریخ

1.3 ریڈیو

1.3.1 ایف ایم ریڈیو ٹیلی کاست

1.3.2 ریڈیو پروگرام اور اس کی اہم اصناف

1.4 ریڈیو کے لیے لکھنا

1.4.1 ریڈیو فیچر

1.4.2 ڈاکومینٹری

1.4.3 ریڈیو ڈراما

1.4.4 ریڈیو ناک

1.4.5 مباحث، مذاکرہ

1.4.6 ریڈیو کی منظوم اصناف

1.5 شیلو ویرش

1.5.1 نیوز رپورٹنگ

1.5.2 اسکرپٹ نگاری

1.6 سینما / فلم

1.6.1 فلمی تبصرہ

1.7 انٹرویو

1.8 اشتہار

1.8.1 ریڈیو ای اشتہار

1.8.2 ٹی وی اشتہار

1.9 ریڈیو اور ٹی وی استکرنگ

باب : 2 میڈیا کے لیے لکھنا - II

2.1 اسکرپٹ (ریڈیو، ٹیلی ویژن)

میڈیا کے لیے خبریں تیار کرنا 2.1.1

‘خبر’ کیا ہے؟ 2.1.2

ریڈیو نیوز بیٹھن 2.1.3

ٹی وی نیوز بیٹھن 2.1.4

ٹی وی کے لیے خبروں کا انتخاب 2.1.5

ٹی وی نیوز ایڈ پینگ 2.1.6

ٹی وی خبروں کی پیش کش 2.1.7

2.2 ٹیلی ویژن دستاویزی فلم

2.3 ڈاکیوڈrama

2.4 نیومیڈیا



تحلیقی جوہر کے پہلے حصے میں میڈیا کی اقسام پرنٹ میڈیا، الکٹرائیک میڈیا اور نیومیڈیا کا تعارف پیش کیا گیا تھا اور پرنٹ میڈیا کے لیے لکھنے کا طریقہ بتایا گیا تھا۔ یہاں اس اکاؤنٹ کے پہلے باب میں بر قی میڈیا کے لیے لکھی جانے والی تحریریوں اور نیومیڈیا سے متعلق بنیادی معلومات فراہم کی گئی ہے۔

بر قی ذراائع ابلاغ ریڈیو، تلویزیون، سینما وغیرہ کے آغاز و ارتقا اور تاریخی پس منظر کو بھی پیش کیا گیا ہے۔ اس یونٹ میں ریڈیو اور تلویزیون اور اصناف اور انھیں لکھنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ نیوز یونٹ کی تیاری اور پیش کش اور ڈاکیوڈ رائے کی اہمیت بھی اس یونٹ میں شامل ہے۔



برقی ذرائع ابلاغ (الیکٹرائک میڈیا) سے متعلق تحریروں کا مختصر تعارف

ذرائع ابلاغ و ترسیل، افکار و خیالات کو ایک فردی مقام سے دوسرے افراد یا مقالات تک پہنچانے کے وسائل ہیں۔ ان وسائل کی اہمیت و افادیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ یہ مسلسل انسانی ایجادات کے ساتھ ساتھ اپنی صورت اور اپنے طریقہ کا تبدیل کرتے رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ذرائع ابلاغ اور عہد ترقی کے مراحل طے کرتے جاری ہیں۔

پرنٹ میڈیا کی مقبولیت کے بعد ریڈیو، سینما اور ٹیلی ویژن جیسے وسائل سامنے آئے۔ ان وسائلوں کے عام ہونے سے الیکٹرائک میڈیا کی ایک اصطلاح رائج ہوئی۔ الیکٹرائک میڈیا کے لیے جو تحریریں لکھی جاتی ہیں ان کے تقاضے پرنٹ میڈیا کی تحریروں سے مختلف ہیں۔

ان تقاضوں کا تعلق پیش کش کے مقاصد، ذرائع اور طریقہ کار سے ہوتا ہے مثلاً اخبار کے لیے لکھتے وقت پڑھنے کے تقاضوں کا خیال رکھا جاتا ہے، ریڈیو کے لیے لکھتے وقت سمعی اصولوں پر نظر رکھی جاتی ہے اور ٹیلی ویژن کے لیے لکھتے وقت سمعی اور بصری دونوں ضرورتوں پر کیساں توجہ دی جاتی ہے۔ ذرائع ابلاغ میں تکمیلی تقاضوں کے علاوہ لکھنے کے مقاصد اور سامعین، قارئین اور ناظرین کے ذہن اور ان کی تہذیب و معاشرت کے لحاظ سے کہیں مضامین، موضوعات، اسلوب، طریقہ کار اور زبان کے معیار میں تبدیلی لائی جاتی ہے۔

1.1 برقی ذرائع ابلاغ Electronic Media

برقی یا الیکٹرائک میڈیا کے لیے لکھنے والے کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ تحریریں اور کس کے لیے لکھی جائی ہے۔ الیکٹرائک میڈیا میں نشر ہونے والے پروگرام کا وقت متعین ہوتا ہے۔ لکھنے والا وقت کے دورانیے کو پیش نظر رکھتا ہے۔ یہے حضوری ہے کہ جو کچھ وہ لکھ رہا ہے وہ طے شدہ مدت میں ختم ہو، نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد۔ اس بات کا بھی خیال رکھا جاتا ہے کہ زبان آسان اور جملے مختصر اور واضح ہوں۔ کسی تحریر میں جامعیت تب ہی آتی ہے جب لکھنے والے کو یہ معلوم ہو کہ اسے کیا نہیں لکھنا ہے اور جو لکھنا ہے اسے کم سے کم الفاظ میں کس طرح ترسیل و تفہیم کے لائق بنانا ہے۔ ترسیل و ابلاغ میں کیوں، کیا، کیسے، کب، کہاں اور کس کے لیے پیش کرنا ہے، کی اہمیت مسلم ہے لیکن کتنے وقت میں پیش کرنا ہے، کو ان سب پروفیقیت حاصل ہے۔ کیوں کہ برقی ترسیل و ابلاغ کے سچی ذرائع پیش کش کی مدت کے پابند ہوتے ہیں۔ آئیے اس باب کے آغاز میں الکٹرائک میڈیا کی تاریخ کا مختصر جائزہ لیتے ہیں۔ اس کے بعد اس میڈیا کے لیے لکھنے جانے والی تحریروں پر توجہ کی جائے گی۔

6.1 سرگرمی

برقی ذرائع ابلاغ (الیکٹرائک میڈیا) کے بتدریج آغاز وارقا کو ایک چارٹ کی شکل میں پیش کیجیے۔

1.2 ذرائع ابلاغ کی تاریخ

برقی ذرائع ابلاغ کا آغاز 1852ء میں ٹیلی گراف کی ایجاد سے ہوا۔ ٹیلی گراف میں تارا اور بجلی کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ صوتی اشارے بھیجے جاتے تھے۔ ٹیلی گراف کے



ذریعے پہلا پیغام 24 مئی 1844 کو امریکہ میں واشنگٹن سے بالٹی مور، بھیجا گیا جس کا جواب بھی موصول ہوا۔ تقریباً بارہ برس بعد پیغام رسانی کے اس ویلے کو وسعت ملی اور امریکہ سے یورپ کے مالین کیبل کی مدد سے پیغامات بھیجنے لگے۔ ٹیلی گرام کے اشارتی پیغام کو دور تک بھیجنے میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد انسانی آواز کو ایک مقام سے دوسرے مقام تک بھیجنے کی کوشش کی جانے لگی اور 1876 میں گراہم ٹیل نے ٹیلی فون کی ایجاد میں کامیابی حاصل کی۔ اس کے بعد سائنس دانوں نے تلاش جستجو کی اگلی منزل طے کرتے ہوئے بر قی ابلاغ کے لیے استعمال ہونے والے تارکو بے تار کر کے پیغامات کو ہوا میں موجود بر قی لمبڑوں کے ذریعے بھیجنہ شروع کیا۔ اسی کو وائز لیس، کہا جاتا ہے۔ اسے نہیں بچ ہرڑ (Heinrich Hertz) نے ایجاد کیا اور گلیو مارکوئی (Guglielmo Marconi) نے اس کی توسعہ کر کے اسے کاروباری استعمال کے قابل بنایا۔ وائز لیس کی ایجاد ایک ایسا اہم اور بنیادی نوعیت کا کارنامہ تھا جس نے ریڈیو، ٹیلی ویژن اور سینما بھی کی ایجادات کو آسان بنادیا۔

1.3 ریڈیو

ہندوستان میں ریڈیو نشریات کا آغاز 1921 میں ناگس آف انڈیا اور پوسٹ اینڈ ٹیلی گراف محکمہ کے اشتراک سے نشر کیے جانے والے ایک موسمیتی کے پروگرام سے ہوا۔ 1930 میں حکومت نے انڈین براؤ کا سٹنگ سروس، شروع کی۔ 1936 میں اسے آل انڈیا ریڈیو کا نام دیا گیا جسے 1957 سے آکاش وانی، کہا جانے لگا۔ آل انڈیا ریڈیو کے آغاز کے ساتھ ہی ریڈیو کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ یہ ابلاغ کا ایک ایسا آسان و سیلہ ثابت ہوا جس نے کچھ ہی عرصے میں گھر گھر میں رسانی حاصل کر لی۔ ریڈیو کے لیے خصوصی پروگرام تیار کیے جانے لگے۔ خبروں کی نشر و اشاعت کے لیے بھی یہ ایک بہترین

جدید سماج کی تکمیل میں کمپیوٹر اور شاریات کی تکمیل کا جزو بردست اثر ہے اس سے اس طرح کے تعلیم یافتہ عموم کی ضرورت سامنے آتی ہے جو اس تکمیل کو سماج اور بني نواع انسان کی بہتری کے لیے مؤثر طور پر استعمال کر سکیں۔ اس لیے یہ ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ علم کے اس دائرہ اثر کو اسکولی درسیات میں جگہ ملنی چاہیے۔ کمپیوٹر تکمیل کے رو زافروں اثرات کے پیش نظر ہمیں اس بنیادی چیਜ ٹوبنجدی سے لینا ہو گا اور ہارڈ ویئر، سافت ویئر اور رابطے کی تکمیل کے معاملے میں معروضی متبادل تلاش کرنے ہوں گے جو ہندوستان کے شہری اور دینی اسکولوں کے لیے مناسب اور فائدہ مند ہوں۔ ہمیں کمپیوٹر سائنس اور انفارمیشن ٹکنالوژی میں ایک جامع اور مریبوٹ نصاب کو ترقی دینے کے مسئلے کو بھی حل کرنا ہو گا جو تعلیمی تربیت کا، تنظیمی اور عوام کے درمیان تبادلہ خیال کے لیے بنیاد رہم کر سکے۔ درسیات کو کار آمد بنانے کے لیے خصوصی موضوعات کو بھی جو میں مضامین افکار (Interdisciplinary) کی سہولت فراہم کرتے ہیں، شامل کرنے کی ضرورت ہے۔

قوی درسیات کا خاکہ - 2005

ویلے ثابت ہوا۔ ریڈیو پر ہندی، اردو اور انگریزی زبانوں میں خبریں نشر کی جانے لگیں۔ عوام کو یہ ویلے اس قدر پسند آیا کہ جس وقت ریڈیو سے خبریں نشر ہوتیں، لوگ ریڈیو کے ارد گرد جمع ہو کر انتظار کیا کرتے۔ اس کی مقبولیت اور افادیت کے پیش نظر ریڈیو کا دائرہ روز بروز بڑھتا گیا۔ بہت جلد ریڈیو کے کئی علاقوں میں شروع ہو گئے۔ ہندوستان جیسے وسیع ملک میں جہاں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں۔ ہر بڑی زبان کے علاقے کے لحاظ سے کئی ریڈیو اسٹیشن کھلتے چلے گئے۔ اوہرآل انڈیا ریڈیو سے نشر ہونے والے پروگرام اور چینلوں کی تعداد میں کمی اضافہ کا سلسہ جاری رہا۔ خبروں کے علاوہ فلمی موسیقی کے پروگراموں نے بڑی مقبولیت حاصل کی۔ ملک بھر سے لوگ اپنی فرمائشیں لکھ کر آل انڈیا ریڈیو پر بھیجتے اور ان کی فرمائش پر فلمی گیت، غزلیں اور نظمیں وغیرہ نشر کی جاتیں۔ فرمائشی گیتوں کے کمی پروگرام جیسے


‘فوجی بھائیوں کے فرمائشی گیت’ بے حد مقبول ہوئے۔ اسی طرح ریڈیو ڈرامے کی نشر و اشتاعت نے بھی عوام کے دل کو مودہ لیا۔ ڈراموں کے مختلف پروگرام جیسے ہو انکل، آج بھی اس نسل کے ذہن میں تازہ ہیں جس نے اپنی نوجوانی میں انھیں ریڈیو کے ویلے سے سنا تھا۔ ریڈیو انسٹیٹیوٹ نے بھی عوام کے دل میں اپنی جگہ بنائی۔ بعض پروگرام تو لوگ صرف اس وجہ سے سنتے تھے کہ انھیں پروگرام کے انا و نسر کی آواز اور انداز بے حد پسند تھا۔ ریڈیو پر نشر ہونے والے اشتہارات بھی تماعت سے گزر کر لوگوں کے ذہن و دل کا حصہ بنے اور لوگ اکثر اشتہارات بھی گنگنا نے لگے۔

آپ کو معلوم ہے کہ کسی ریڈیو اسٹیشن سے نشر ہونے والے پروگرام ریڈیو سیٹ پر سنے جاتے ہیں۔ ریڈیو سیٹ ان ریڈییائی لہروں کو کیچ (Catch) کرتا ہے جو ریڈیو اسٹیشن سے نشر کی جاتی ہیں۔ ان ریڈییائی لہروں کا ایک مخصوص دائرہ ہوتا ہے جسے ان لہروں کی حد بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسے آپ یوں سمجھیجیے کہ کسی ریڈیو اسٹیشن سے نشر ہونے والے پروگرام اس اسٹیشن کے ارد گرد واقع 100 کلومیٹر کے دائے میں سنے جاسکتے



ہیں اور کسی ایشیشن کے پروگرام اس ایشیشن سے 5 ہزار کلو میٹر کی
دوری پر بھی سے جا سکتے ہیں۔ اس کا انحصار ریڈیو ایشیشن کی تینی
صلاحیت یاری ڈی یائی لہروں کی Wavelength پر ہوتا ہے جس
کی پیاس کی جاتی ہے۔ ان لہروں کی پیاس کے اعتبار
سے میڈیم ویو (MW) بینڈ اور شارت ویو (SW) بینڈ وجود میں
آئے۔ ساتھ ہی ان کی فریکوئنسی کے پیانے میگا ہر ہزار بھی مقror
ہیں۔ چنانچہ ریڈیو ایشیشنوں سے آج بھی اس نویعت کے
اعلان کیے جاتے ہیں کہ ”یہ آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس ہے۔
آپ ہمارے پروگرام میڈیم ویو اور شارت ویو پر سکتے ہیں۔

ہمارے میٹرز میں میڈیم ویو 427.3 میٹر یا 702 کلو ہر ہزار،
میڈیم ویو 280.1 میٹر یعنی 4860 کلو ہر ہزار، شارت ویو
31.27 میٹر یعنی 9595 کلو ہر ہزار اور 100.8 میگا ہر ہزار 1468.504 میگا ہر ہزار
پر یہ آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس ہے۔“ آزادی کے فوراً بعد ہندستان میں کل چھے
ریڈیو ایشیشن، بارہ میڈیم ویو (MW) اور چھے شارت ویو (SW) ٹرانسمیٹر تھے۔
فی الحال ہندوستان بھر میں 210 سے زائد بڑا کاسنگ سینٹر قائم ہیں جو ملک کی تقریباً
کل آبادی کو اپنی خدمات مہیا کرتے ہیں۔ 1997ء میں ایک خود مختار نشریاتی ادارہ
Broadcasting Corporation of India کی تکمیل عمل میں آئی جسے
”پرسار بھارتی“ کے نام سے مقبولیت ملی۔



1.3.1 ایف ایم ریڈیو ٹیلی کاست

ہندوستان میں آکاش وانی سے تقریباً نصف درجہ شہروں میں ایف ایم (Frequency Modulated) ریڈیو نشریات کی ابتدا 1993ء میں ہوئی۔ ایف ایم ریڈیو چھوٹی دوری عموماً 30 سے 40 کلو میٹر تک کا انتشار ہے اور اس کی صوتی کوالیٹی اعلیٰ درجے کی ہے۔ اس نشریہ پر خراب موسم کا اثر بھی کم پڑتا ہے۔ ایف ایم نشریات موسیقی، ملاقات، امن و یوپی ٹینی لائیو ٹیلی فون ان پروگرام ہیں۔ 1999ء میں حکومت نے 40 شہروں میں 150 ایف ایم مرکز کو منظوری دے



دی۔ ساتھ ہی حکومت نے خود کا تنظیموں، تعلیمی اداروں اور رضا کار تنظیموں کو بھی کیوں نہیں ریڈ یو اسٹیشن قائم کرنے کی اجازت دی۔ اس طرح ہندوستان میں ایف ایم کی توسعے کے لامحدود مکانات ہیں۔

1.3.2 ریڈ یو پروگرام اور اس کی اصناف

ریڈ یو کے نشریاتی پروگراموں کی زمرہ بندی موسیقی، گفتگو اور خبر کی صورت میں کی جاتی ہے۔ موسیقی کے تحت ساز کی موسیقی (Instrumental Music) اور آواز کی موسیقی (Vocal Music) نشر کی جاتی ہے۔ ان میں کلاسیکی، نیم کلاسیکی، ہلکی چھلکی یا مقبول موسیقی، لوک موسیقی، ساز گنگیت، فلمی موسیقی اور مغربی موسیقی کا شمار ہوتا ہے۔ گفتگو کے پروگرام میں ریڈ یو تاک (Radio Talk)، کلام شاعر، شعری نشست، ادبی نشست، مباحثہ، اثر و یو، آنکھوں دیکھا حال یا رواں تبہرہ، ریڈ یو رپورٹ، ریڈ یو فیچر، یہی اور ریڈ یا می ڈرائی ٹری ٹولز شامل ہیں۔ اسی طرح خبروں کے پروگرام میں خبروں کے علاوہ حالات حاضرہ کے پروگرام بھی پیش کیے جاتے ہیں۔

1.4 ریڈ یو کے لیے لکھنا

ریڈ یو کی دنیا ساز و آواز سے آباد ہوتی ہے۔ اس لیے ریڈ یا می اصناف تخلیق کرتے وقت زبان کی صوتی خوبیوں، الفاظ کے مزاج، زبان کے فطری استعمال کے ہمراہ سے واقف ہونا ضروری ہے۔ ریڈ یا می اصناف میں تحریری زبان کے بجائے روزمرہ اور بول چال کی زبان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے ریڈ یا می تقریروں کو Speech Talk کہا جاتا ہے۔ اردو میں Talk سے مراد تحریر، بات چیت، یا گفتگو ہے۔ ریڈ یو میں Spoken Words کے تحت ریڈ یو تقریر، اثر و یو، مذاکرہ، مباحثہ، تبہرہ، شعری نشست اور حالات حاضرہ کو شامل کیا جاتا ہے۔ ان سبھی اصناف کو تخلیق یا پیش کرتے وقت اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ ان کو سنتے وقت سامعین پر یہ تاثر قائم ہو کہ وہ جو کچھ سن رہے ہیں وہ بے تکلف گفتگو یا بات چیت کا حصہ ہے۔ گویا جب ریڈ یو کے لیے کچھ لکھا جائے تو متعینہ وقت کے لحاظ سے یہ طے کر لینا چاہیے کہ کیا کہنا ہے اور کیا نہیں کہنا ہے۔ اس کے بعد اہمیت کے لحاظ سے ان نکات کو ترتیب دینا چاہیے۔ واقعات و نکات کو ترتیب دیتے وقت عام لوگوں کی دلچسپی کے علاوہ متعلقہ سامعین کی دلچسپی، ہنی بلوغت، تعلیمی لیاقت اور پیشے





کے اعتبار سے زبان کا استعمال کرنا چاہیے۔ مجموعی طور پر عوامی ذرائع ابلاغ کے لیے لکھی جانے والی تحریر کا مقصود اپنی زبان دانی سے سامعین کو متاثر کرنا نہیں ہوتا بلکہ اطلاعات و معلومات کی ترسیل کو اس میں اہم مانا جاتا ہے۔ ریڈ یو پر الگ الگ نوعیت کے مختلف پروگرام نشر کیے جاتے ہیں۔ پروگراموں کی نوعیت کے لحاظ سے انھیں ریڈ یا ای اصناف کہا جاتا ہے۔ بیہاں بعض اہم اور مقبول ریڈ یا ای اصناف کی تفصیل دی جا رہی ہے۔

1.4.1 ریڈ یو فیچر

کسی موضوع پر مشتمل دستاویزی پیش کش کو ڈرامائی شکل میں نشر کرنا فیچر ہے۔ فنِ نظر نظر سے فیچر ایک بیانیہ ہے جو ایک سے زیادہ آوازوں میں پیش کیا جاسکتا ہے۔ فیچر کا بنیادی مقصد تفریخ ہوتا ہے۔ اگر اس میں خاص حقیقت بیانی سے کام لایا گیا تو اس کی صورت مضمون کی ہو جائے گی۔ لہذا اس میں حقیقت کو تفریخی رنگ میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہ کوشش بھی کی جاتی ہے کہ فیچر میں ایسی باتیں شامل کی جائیں جو عام معلومات کا حصہ نہیں ہے۔ فیچر شخصی ہو سکتا ہے اور موضوعاتی بھی، منظوم ہو سکتا ہے اور نثری بھی۔ شخصی فیچر میں کسی شخص کی زندگی کے اہم حالات و اتفاقات کا احاطہ کیا جاتا ہے۔ موضوعاتی فیچر میں کسی خاص موضوع مثلاً ادب، تاریخ، سیاست، سائنس، کھلیل کو د وغیرہ کو بنیاد بنا کر جاتا ہے۔ ڈرامائی فیچر کو کرداروں کے مکالموں کے ذریعے ڈرامے کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے۔ ریڈ یو فیچر کرنے والے کے لیے طے شدہ وقت یادواری کے لحاظ رکھنا ضروری ہے۔

ریڈ یو فیچر کی پیش کش کے لیے آواز کے اتار چڑھاؤ کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ موقع محل کی مناسبت سے بیک گرا و ٹنڈ میوزک کے ذریعے بھی ریڈ یو فیچر کے تاثر میں اضافہ کیا جاتا ہے۔

» ریڈ یو فیچر کے لکھنے

جیسا کہ بتایا گیا فیچر کا بنیادی مقصد تفریخ ہوتا ہے، اس لیے فیچر لکھتے وقت سامعین کی تفریخ کا خیال رکھیے۔ تحریر میں ڈرامائی اور افسانوں کی نشر کا استعمال کیجیے۔ حقیقت کو ادبی انداز میں پیش کیجیے۔ موضوع کا انتخاب کرتے وقت سامعین کی دلچسپی کو پیش نظر رکھیے۔ فیچر میں کوئی نئی بات پیش کرنے کی کوشش کیجیے۔ آسان الفاظ اور مؤثر مکالمے کا استعمال کیجیے۔

1.4.2 ڈاکیومنٹری

ڈاکیومنٹری بنیادی طور پر دو لفظ ڈاکیومنٹ (Document) اور کمیٹری (Commentary) کا مرکب ہے۔ ڈاکیومنٹری کے اصطلاحی معنی دستاویز یا حقائق کو کمیٹری کی شکل میں پیش کرنا ہے۔ ڈاکیومنٹری کو دلچسپ بنانے کے لیے کمیٹری کے دوران انعروپا کا بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔ دراصل ڈاکیومنٹری حقیقت میں تخلیقیت کی آمیزش سے تیار ہوتی ہے فن اور پیش کش کے لحاظ سے ڈاکیومنٹری کی دو قسمیں ہیں۔

(i) ڈاکیومنٹری (ii) ڈاکیوڈrama



ڈا کیو مینٹری اور ڈا کیوڈ راما دنوں ہی کسی حقیقی واقعے کو بنیاد بنا کر تیار کیے جاتے ہیں اور دنوں میں حقیقت کے غصہ کا غلبہ ہوتا ہے۔ البتہ ڈا کیوڈ راما میں کوشش کی جاتی ہے کہ ان واقعات کو ڈرامے کی صورت میں پیش کیا جائے جو حقیقی طور پر پیش آچکے ہیں۔ اس لیے ڈا کیوڈ رامے کی پیش کش میں ڈرامے کے تمام اجزاء پلاٹ، کردار، مکالمہ، وحدت عمل، وحدت زماں و مکاں کے علاوہ تضاد و کشمکش کا ہونا ضروری ہے۔ ڈا کیو مینٹری میں واقعات کی ڈرامائی انداز میں پیش کش کی نسبت ایسی فضایا قائم کرنے پر توجہ کی جاتی ہے جو حقیقی معلوم ہو۔ اس میں ڈرامائی عنصر شامل کیے جاتے ہیں۔ کہیں کچھ کردار وضع کر دیے جاتے ہیں جوان و اقدامات و حالات کو مکالمائی انداز میں اس طرح پیش کرتے ہیں کہ ڈرامے کا سالطف محسوس ہوتا ہے۔

» ڈا کیو مینٹری کیے کیس

ڈا کیو مینٹری لکھنے کے لیے پہلے موضوع کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ موضوع کے اعتبار سے مواد حاصل کیا جاتا ہے اور تحقیق کردہ مواد کو مرتب کر کے کنٹری کا ہی جاتی ہے۔ کنٹری کے درمیان ضرورت کے مطابق انٹرو یوز کا استعمال ڈا کیو مینٹری کو مورثہ بناتا ہے۔ ڈا کیو مینٹری کی اسکرپٹ لکھنے وقت سامعین کی دلچسپی اور حقائق کی پیش کش کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اسکرپٹ لکھنے وقت سادہ، سلیس اور مورثہ زبان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ڈا کیو مینٹری کسی تاریخی واقعے یا کسی مخصوص عہد سے متعلق ہے تو اسی زمانے کی نظیمات اور اسلوب کا استعمال کرنا بہتر ہوتا ہے۔

1.4.3 ریڈیوڈ راما

ریڈیو آواز کا میڈیم ہے جب کہ اسٹینچ اور ٹیلی ویژن دید و شنید دنوں سے سرداڑ رکھتے ہیں۔ ریڈیو میں ہر ایک کیف و جذبہ، مسرت و غم یہاں تک کہ خاموشی کو بھی آواز کے ذریعے ہی پیش کیا جاتا ہے۔ آواز کے ذریعے ہی کرداروں کی شبیہ سازی، صورت حال کی تصویر کشی، مناظر کی تخلیق، جذبات کی شدت یہاں تک کہ آنسوؤں کی حدت کا احساس کرایا جاتا ہے جب کہ اسٹینچ، فلم اور ٹیلی ویژن میں یہ سب کچھ متحرک صورت میں ہوتا ہوا دکھایا جاسکتا ہے۔ اس لیے ریڈیوڈ رامے میں مکالمے کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ یہاں حرکات و مکالمات اور فقر و عمل کے مراحل زبان، صوتی تاثر، موسیقی، مکالمہ اور گفتگو سے ہی طے کیے جاتے ہیں۔ اس میں صوتی آہنگ، زبان کی موزونیت اور مکالموں کی برجستگی پر سب سے زیادہ زور دیا جاتا ہے۔

» ریڈیوڈ راما کیے کیس

کسی بھی میڈیم کے لیے ڈراما لکھتے وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ڈرامے کے بھیجی اجزاء میں پلاٹ، قصہ، کردار اور مکالمے کی بنیادی اہمیت ہے۔ ڈراما لکھتے وقت خیال رکھنا چاہیے کہ پلاٹ جامع، قصہ





تہہدار، کردار متحرک اور مکاٹے مختصر اور کپش ہوں۔ ڈرامے کو مجموعی طور پر دلچسپ بنانے کے لیے نگاش، تندبزب اور تضاد کا ہوتا لازمی ہے۔ اسی طرح ڈرامے کی تکمیل میں وحدتِ ثلاش یعنی عمل، زمان اور مکان کی وحدت کا استعمال اور ان کے امتحان سے وحدتِ تاثر کا پیدا ہونا کامیاب ڈرامے کی دلیل ہے۔ مذکورہ تمام نکات ڈرامے کو پیش کرنے کے سبھی ذرائع کے لیے اہمیت کے حامل ہیں۔

1.4.4 ریڈیو ناک

کسی موضوع پر بے تکلف تبادلہ خیال کو ریڈیو ناک کہا جاتا ہے۔ اس کے موضوعات انسانی فلاج و بہبود، سائنس اور رکنالوجی، سیروسیاحت، تاریخ و تہذیب، جغرافیہ اور سیاست، کتابوں پر تبصرے، افسانے اور شاعری پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ریڈیو ناک میں کسی ایک موضوع پر کوئی ایک شخص بے تکلف گفتگو پیش کرتا ہے۔ ناک لکھتے وقت اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ گفتگو کی فضا مصنوعی نہیں حقیقی معلوم ہوا اور طرزِ گفتگو بے تکلف ہو۔ ناک میں اس بات کا بھی خیال رکھا جاتا ہے کہ متعلقہ موضوع کے سبھی نکات واضح ہو جائیں۔

» ریڈیو ناک کیسے لکھیں

ریڈیو ناک، کسی موضوع پر ایک جامع نوعیت کی گفتگو ہوتی ہے جسے مضمون کی شکل میں لکھا جاتا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے کسی موضوع کا انتخاب کیجیے۔ پھر ایسا مضمون لکھیے، جسے دس سے پورہ منٹ میں ریڈیو پر پیش کیا جاسکے۔ ریڈیو ناک میں مضمونِ نگاری کے تمام تقاضوں کو لٹوڑ رکھیے۔ آسان الفاظ اور چھوٹے چھوٹے جملوں میں اپنی بات کمل کیجیے۔

1.4.5 مباحثہ، مذاکرہ

مباحثہ بھی ایک اہم پروگرام ہے جس میں سماجی، معاشری، تہذیبی، ثقافتی، ادبی، سائنسی اور تاریخی موضوعات کے علاوہ ہنگامی نوعیت کے موضوعات اور حالات حاضرہ پر ماہرین اپنے نظریات و خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ مباحثہ کا پروگرام عام طور پر تیس منٹ کا ہوتا ہے۔ جس میں چار یا پانچ شرکاء ہوتے ہیں۔ اس پروگرام میں ایک موڈریٹر (Moderator) ہوتا ہے جو مباحثے کی سمت و فرقہ متعین کرتا ہے۔ اس پروگرام کا خاکہ تیار کرنے یا اس میں شریک ہونے کے لیے متعینہ مدت کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ ایک صحت مند مباحثے کی پیچان یہ بھی ہوتی ہے کہ شرکاء سوالات کا جواب دیتے وقت ادھر ادھر بکھنے سے پرہیز کریں۔

مذاکرہ ریڈیو پر نشر ہونے والا ایک اہم پروگرام ہے۔ اس میں بھی مباحثہ کی طرح مختلف علمی، ادبی اور معاشرتی موضوعات پر ماہرین کو مدعو کیا جاتا ہے، جو کسی طے شدہ موضوع پر اپنی اپنی رائے پیش کرتے ہیں۔ اس طرح کسی ایک موضوع کے متعلق مختلف لوگوں کی رائے کے اظہار سے ریڈیو کے سامعین کی معلومات اور بصیرت میں اضافہ ہوتا ہے۔ مذاکرے اور مباحثے کا کوئی اسکرپٹ نہیں ہوتا۔ ماہرین اپنے موضوع کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔



مباحثے اور مذاکرے میں ایک باریک امتیاز یہ ہے کہ مباحثے کے دوران اسٹنکر یا شرکا ایک دوسرے کی گفتگو میں مداخلت کر سکتے ہیں لیکن مذاکرے میں عام طور پر شرکا یا مہرین ایک موضوع سے متعلق اپنے اپنے خیالات کا آزادانہ اظہار کرتے ہیں۔

1.4.6 ریڈ یو کی منظوم اصناف (منظوم ڈراما، اوپیرا یا غنائیہ اور ڈنس ڈراما)

نشریات کے ابتدائی زمانے میں ریڈ یو سے نشر ہونے والی منظوم تخلیقات کو سینگیت روپ کیا منظوم فیچر کہا جاتا تھا۔ اس نوع کی پیش کش میں موضوعات سے زیادہ فضلا اور کیفیت کی وحدت پر زور دیا جاتا ہے۔ منظوم ڈرامے کو لکھنے اور پیش کرنے میں تجربے کیے جانے لگے تو ماہرین نے انھیں مختلف ناموں سے منسوب کر دیا۔ اس طرح یہ منظوم تخلیقات اوپیرا، ڈنس ڈراما، بیلے اور منظوم ڈرامے کی صورت میں اپنی آزادانہ اور امتیازی شناخت قائم کرنے لگیں۔

بیلے اور ڈنس ڈراما کا تعلق ریڈ یو سے زیادہ اسٹنکر اور اسکرین سے ہے۔ جسے عرف عام میں اوپیرا کہا جاتا ہے۔ اسی کو ریڈ یو والے غنائیہ کہتے ہیں۔ منظوم ڈراما، اوپیرا اور ڈنس ڈراما میں تحریری سطح پر بڑی ممائش ہوتی ہے۔ لیکن جب کسی واقعیت یا احساس کو منظوم الفاظ میں ادا کیا جاتا ہے تو اسے منظوم ڈراما کہتے ہیں اور جب اس منظوم پیش کش میں موسیقی کا مسلسل استعمال ہو تو اوپیرا کہلاتا ہے۔ اس طرح کسی احساس یا جذبے کو رقص کے ذریعے پیش کیا جائے تو اسے بیلے کہتے ہیں۔ اگر اس رقص میں مکالمے بھی شامل ہو جائیں تو اسے ڈنس ڈراما کہتے ہیں۔ گویا ان اصناف کی تخلیق کرتے وقت یاد رکھنا چاہیے کہ منظوم ڈرامے کے لیے مکالموں کا منظوم ہونا، اوپیرا کے لیے موسیقی، بیلے کے لیے رقص اور ڈنس ڈرامے کے لیے رقص اور مکالمے کا مترادج لازم ہے۔

منظوم ڈرامے میں قدیم قصوں، داستانوں یا دیگر اہم قصوں کو بنیاد بنا کر ڈرامے پیش کیے جاتے ہیں۔ ان کے تمام مکالمے منظوم ہوتے ہیں۔ ریڈ یو پر ایک راوی قصہ کو آگے بڑھاتا ہے اور دوسرے کردار منظوم مکالموں کو ترجمہ میں ادا کرتے ہیں۔ ان مکالموں کے ذریعے کرداروں کی شخصی خصوصیات کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ اس طرح کے ڈراموں کے لیے عام طور پر ایسے قصوں کا انتخاب کیا جاتا ہے جن کے متعلق سامنے کو پہلے سے بنیادی معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ جب وہ پہلے سے معلوم قصہ کو منظوم شکل میں سنتے ہیں تو بے حد الف اندوڑ ہوتے ہیں۔

منظوم ڈرامے میں آپ کو غالباً کئی کرداروں کے لیے الفاظ تلاش کرنے ہوتے ہیں۔ یہ شاعری (یعنی خاص ڈرامائی لمحوں کی زبان)، جب اس میں شدت پیدا ہوتی ہے) کرداروں کے اپنے اپنے خصائص کے لحاظ سے سب میں تقسیم ہونی چاہیے اور آپ کو چاہیے کہ آپ ہر کردار سے وہی الفاظ کھلوا کیں جو اس کے لیے موزوں ہوں۔ جب کوئی کردار شعروں میں با تیس کر رہا ہو تو یہ محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ وہ خود شاعر کی ترجمانی کر رہا ہے۔ اس لیے شاعر کا کام صرف یہ رہ جاتا ہے کہ وہ ہر کردار سے صرف اسی قدر شعر اور صرف اسی شدت کے ساتھ کھلوائے جو اس کردار کے ساتھ بآسانی منسوب ہو سکے۔ ان اشعار کا ایک اور جواز یہ ہونا چاہیے کہ وہ کس حد تک ڈرامے کی مطلوبہ کیفیت کو ابھارنے میں معاون ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کردار کے منھ سے پُشکوہ اشعار بہت موزوں معلوم ہوں لیکن ان اشعار کا ڈرامے کے عمل کے لیے موزوں ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ ضروری ہے کہ وہ خاص موقعے کی جذباتی شدت کو پورے طور پر ابھار سکیں۔





اجنبی زندگی میں ریڈ یو کے لیے ایک منظومہ تمثیل

کردار:

اجنبی

ہمیشہ سے — اپنے وطن میں — پہاں — ہر کہیں اجنبی — ہاں میں صحرائے وحشت کی ایک چیخ ہوں، اجنبی اور آوارہ چارسوں۔
پھول جب بھی جلنے، شمع جب بھی نیکھی، دل جہاں بھی لٹا،
میں اذیت سے رو تارہا.....
نووارد

میں ہمیشہ ترے ساتھ، تھہ سے قریب، اس قدر تیرے نزدیک ہوتا ہوں، تیراہر آنسو مری آنکھ سے ہو کے بہتا ہے — میرا بھی
دامن بھگوتا ہے۔

محنے میری آواز سے جان — صورت تو آنکھوں کا اک داہمہ ہے۔
ایستر

اصل سے ناوارا توہی اصل حقیقت ہے اے ایستر،
دیوتاؤں کے اسرار کی محروم خاص!
وہ ستاروں کی گردش کی سب سے بڑی رازداں،
جس کی آہٹ پکلیاں چکلتی ہیں!
اہرمن اور اس کے درباری —

جبان لفظ سب بے حقیقت ہیں! سایوں کی دنیا!
اجنبی: وہ تاریخ کا سب سے پُر ہول دن!

نووارد: ہاں، وہی شیطنت کے گھٹاؤپ اندھیرے
کہ جب ایستر

اجنبی: دیوتاؤں کے اسرار کی محروم خاص
نووارد: جب ایستر

اجنبی: وہ ستاروں کی گردش کی سب سے بڑی رازداں، ایستر
نووارد: اپنے معبد میں شب بھرڑ پتی رہی



سرگرمی 6.2

مختلف ریئی یا اپنے اصناف سے مختلف لکھنے کے ضمن میں جو
بنیادی نکات ہیں، کلاس میں ان پر
تبادلہ خیال کیجیے۔



اس کی بے حرمتی، اس کی توہین —
اجنبی: تاریخ کا سب سے پُر ہول جرم
نووارد: اسٹرلٹ گئی،
اجنبی: دیوتا وہ ہمیں بخش دوا!
نووارد: ایسٹر کھوگئی

اس کے ویران معدب کی دلیل پر جا کے دیکھو،
ابھی خون تازہ ہے

دیکھو ہاں کتنے بھوکے دندے ابھی تک اسے چاٹتے ہیں،
اجنبی: یہ کیا ہور ہاہے؟ یہ کیا ہو گیا؟

نووارد: تو نے وہ جشن خوبیں بھی دیکھا تھا،

جب ظلمت شب میں نغمہ شاخوں سے پھکارتے ناگ لپٹھے ہوئے ان کا رس چوتے تھے؟
اجنبی: مجھے یاد ہے!

نووارد: تو نے اس وقت جتنے بھی آنسو بہائے تھے
وہ میرے سینے میں زخموں کے مانند محفوظ ہیں !!

اجنبی: ایسٹر کھوگئی !!

نووارد: اس کے سنسان معدب میں اب کون شعیں جلائے گا؟
کوئی نہیں! روشنی کھوگئی!

تم نے دیکھا نہیں، رات کتنی بھی انک ہے؟

گلیوں میں زخمی پرندے کہاں سے تڑپتے ہوئے آگئے ہیں،
کبھی تم نے پہلے ہواں میں یہ پھر پھراہٹ سنی۔

— سید رضیٰ ترمذی

1.5 ٹیلی ویژن


ٹیلی ویژن عوامی ذرائع ابلاغ کا سب سے مؤثر اور مقبول میڈیم ہے۔ آواز کے ساتھ تصویروں کی ترسیل کے باعث ٹیلی ویژن سے انسانی جذبات اور شخصیت کی تربیتی کو کامیابی کے ساتھ اور مؤثر طریقے سے پیش کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ناظرین پر اس کا براہ راست اثر ہوتا ہے۔ ٹیلی ویژن کی مدد سے دور دراز علاقوں میں ہونے والے واقعات اور حادثات سے گھر پہنچنے والا قیمت حاصل



ہو جاتی ہے۔ Tele اور Vision کے امتزاج سے لفظ ٹیلی ویژن بنا ہے۔
لفظی معنی ہے دوری پر (Far off) اور Vision کے معنی ہیں دیکھنا۔
ٹیلی ویژن کے ذریعے دور کی چیزوں کو دیکھنے پانے کے باعث ہی اس کا نام
ٹیلی ویژن رکھا گیا۔

ٹیلی ویژن کی ایجاد 1922 میں اسکٹ لینڈ کے سائنسدار جان لوگی یہڑا Royal Logie Baird نے کی۔ 1926 میں یہڑا نے John Logie Baird میں ٹیلی ویژن کا تجربہ کیا تھا۔ نیویارک اور واشنگٹن کے درمیان سب سے پہلے تجربے کے طور پر ٹیلی ویژن پروگرام کو برلنی تارکے ذریعے پیش کیا گیا تھا اور اسے ٹیلی ویژن پروگرام سیریز کی پہلی کڑی مانا جاتا ہے۔ ٹیلی ویژن پروگراموں کا دنیا میں پہلا ٹیلی کاست 1936 میں برطانیہ میں برش براؤ کا سٹنگ کار پوریشن یعنی بی بی سی نے کیا۔ فرانس میں 1938 میں اور امریکہ میں 1941 میں ٹیلی ویژن پروگراموں کا ٹیلی کاست شروع ہو گیا۔

ہندوستان میں ٹیلی ویژن کی ابتداء 15 ستمبر، 1959 میں تجربے کے طور پر یونیکسو کے ذریعے چلائے جا رہے ایک خصوصی پروڈیکٹ کے تحت ہوئی۔ 15 اگست، 1965 میں ٹیلی ویژن کی روزانہ سروں کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ 1975 میں سٹیلابیٹ کے استعمال سے ہندوستانی ٹیلی ویژن کی تاریخ میں انقلابی تبدیلی آئی۔ جس سے ٹیلی نشریات و باب تک پہنچ سکیں، جہاں زمینی اسٹیشن کا گرنجیں تھے۔ 15 اگست 1982 کو دو درشن نے رنگین ٹیلی ویژن نشریات کی ابتداء کی۔ رنگین لٹی۔ وی کی آمد کے بعد لٹی۔ وی چینل کی مقبولیت میں بے حد اضافہ ہوا۔ 1990 کی دہائی کے آغاز میں کیبل لٹی۔ وی نشریات کا سلسہ شروع ہوا۔ اب لٹی وی محض سرکاری نشریہ نہیں رہا بلکہ پرائیوٹ کمپنیوں نے اس کی روزافزول مقبولیت سے فائدہ اٹھایا۔ ایک کے بعد ایک نئے نئے چینل شروع ہوتے گئے۔ تفریجی چینل، فلمی چینل، گانوں کے چینل اور 24 گھنٹے خبرنگر کرنے والے چینل۔ کیبل لٹی۔ وی یا پرائیوٹ لٹی۔ وی چینلوں کی آمد کے بعد اس مواصلاتی وسیلے کی دنیا ہی بدلتی رہ گئی۔ لٹی۔ وی نے بدلتے سماجی، رحماتی کے مطابق پروگرام پیش کرنا شروع کیے۔ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی دوڑ میں پرائیوٹ لٹی۔ وی جیلز مختلف نوعیت کے پروگرام پیش کرنے لگے۔ ان میں فلمی موسیقی



6.3 سرگرمی

لٹی وی نیوز ٹیلیشن کی نمایاں خصوصیات کا ایک خاکہ بنائیے اور اس پر ساتھیوں کے درمیان اپنی رائے پیش کیجیے۔






اور فلموں مے متعلق گپ شپ کے علاوہ ٹی۔ وی سیریلوں کو بے حد مقبولیت ملی۔ بعض ٹی۔ وی چینیاں نے محض اپنے کسی ایک سیریل کی مقبولیت کی بنا پر بہت نام لکھا۔ ان ٹی۔ وی سیریلوں نے سماج کے بڑے طبقے کو متاثر کیا اور سماجی اقدار کو نیا رخ بخشنا۔ ٹی۔ وی سیریلوں کی تیاری میں کہانی لکھنے سے لے کر اسکرین پر پیش کش تک کئی مراحل ایسے آتے ہیں جن میں ماہر لکھنے والے اپنی اپنی خدمات پیش کرتے ہیں۔ کوئی کہانی لکھتا ہے، کوئی اسکرین پلے، کوئی مکالے لکھتا ہے تو کوئی اسکرپٹ فلموں ہی کی طرح اس دنیا میں بھی مؤثر ادا کاری اور مکالموں کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ دل کو چھو لینے والی کہانی اور پڑا شک مکالے تحریر کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اس نصاب کا مطالعہ کرنے والے طالب علم اپنے ذوق و شوق اور اپنی تخلیقی صلاحیتوں کے اعتبار سے ٹی۔ وی کی دنیا میں اپنا کیر پیز بن سکتے ہیں۔ صرف سیریل ہی نہیں، فلمی دنیا مے متعلق دیگر پروگراموں یا فلمی دنیا کی گپ شپ کی پیش کش کے لیے بھی قلم کاروں کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ٹی۔ وی پر نشر ہونے والے ہر پروگرام کی پلے اسکرپٹ تیار کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہی اس کی تیاری اور نشر کیے جانے کا مرحلہ آتا ہے۔ پرائیوٹ چینیاں کی آمد کے بعد تقریبی نویعت کے پروگرام پیش کرنے والے ٹی۔ وی چینیاں کے علاوہ خبروں کے چینیاں نے بھی اپنا ایک الگ مقام بنایا۔ ایسے ٹی۔ وی چینیل 24 گھنٹے خبریں یا خبروں پر مبنی بحث و مباحثے کے پروگرام نشر کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں بعض نیوز ٹی۔ وی چینیل اپنے روپرٹروں اور خبریں پیش کرنے والوں کی مہارت کے سبب اپنی الگ بیچجان رکھتے ہیں۔ بعض ٹی۔ وی روپرٹر معااملے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے بڑے بڑے خطرات مول لیتے ہیں۔ کچھ ماہر صحافی بڑے لیدروں کو اپنے سوالوں سے اس قدر متاثر یا مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ اندر کا سچ کہنے پر آزادہ ہو جاتے ہیں۔

اس یونٹ 'میڈیا کے لیے لکھنا' میں بنیادی طور پر لکھنے کے ان فارمیٹس کی طرف توجہ کی جا رہی ہے جن کا تعلق خبروں کے چینیل سے ہے۔ خبروں کے چینیل پر خبروں کی تیاری سے لے کر پیش کش تک جو مراحل سامنے آتے ہیں، ان کا مختصر ذکر یہاں پیش ہے۔

6.4 سرگرمی


ٹی۔ وی نیوز میں ایمیڈیا نگ کے رول، اہمیت اور افادیت پر ایک مذاکرہ کیجیے۔





1.5.1 نیوز رپورٹنگ

رپورٹنگ صافت کی ایک اہم کڑی تسلیم کی جاتی ہے اور اس کے بغیر کسی ادارے میں خبر نویسی کا تصور ممکن نہیں ہے۔ رپورٹنگ کے لفظی معنی یہیں رپورٹ لکھنا یا بھیجننا، اطلاع دینا، بتانا یا کہنا، معلومات فراہم کرنا۔ رپورٹ اس کام کو بخوبی انجام دینا ہے۔ رپورٹ کا کام ہے خبروں کی فراہمی یعنی انھیں حاصل کرنا یا اکھانا کرنا اور انھیں کسی ذرائع ابلاغ کے لیے لکھنا۔ رپورٹ میں خبر کے حوالوں کے لیے ایک خاص کیفیت ہوتی ہے۔ وہ خبر کی جستجو اور تلاش میں رہتا ہے۔ وہ خبر کی تہہ تک جاتا ہے۔ وہ واقعہ کی تحقیق اور تفہیش کرتا ہے۔ اس کے بعد اپنی رپورٹ تیار کرتا ہے۔ اس میں خبر کو تلاش کرنے کی حریت انگیز صلاحیت ہوتی ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ کس خبر کی کتنی اہمیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کہیں کوئی حادثہ، جرم یا واردات ہو، پلک مینگ، لیدروں کی تقریریں، سیمینار، پریس کانفرنس، ثقافتی اور ادبی محفلوں کا انعقاد ہو یا کھیل کا میدان، وہاں رپورٹ موجود ملتے ہیں۔ رپورٹ کی ان خوبیوں کے سبب انھیں پریس کی دھڑکن کہا جاتا ہے۔



6.5 سرگرمی

ٹی وی خبروں کی پیش کش کے بنیادی نکات پر اپنے ساتھیوں سے تبادلہ خیال کیجیے۔



سرگرمی 6.6

اگر آپ سے کسی خبر کی روپرٹ کے لیے کہا جائے تو
آپ ایک اچھے روپرٹ کاروں کیسے ادا کریں گے؟



روپرٹ کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اخبار، ملی وی، ریڈ یا اور دیگر ذرائع ابلاغ کی آنکھ، کان، ناک اور منہ ہوتے ہیں۔ واقعات کے چشم دید ہونے کے باعث وہ آنکھ ہیں۔ گلی، سڑک، اسٹچ، آڈیو ریم کی مختلف سرگرمیوں کو سن کر اپنے دماغ میں محفوظ کرتے ہیں اس لیے وہ کان ہیں۔ وہ خبر کی ایمیٹ کو بہت جلد محسوس کر لیتے ہیں یا سوچ لیتے ہیں اس لیے وہ ناک ہیں۔ اپنی مضبوط و اور غیر جانبدار تحریروں سے خبر کو عوام کے سامنے نانے کا کام کرتے ہیں اس لیے وہ منہ ہیں۔ دراصل روپرٹ صحفات کا اہم جز ہے۔ وہ اپنی روپرٹ کے ایک ایک حرف کے لیے زندہ اور جواب دہوتا ہے۔

1.5.2 اسکرپٹ نگاری

الیکٹرانک میڈیا میں ہر پروگرام کی اشاعت سے قبل اس کی اسکرپٹ تیار کی جاتی ہے۔ اسکرپٹ ایک تکنیکی نویعت کی وسماویز ہے جس میں پروگرام کے آغاز سے لے کر آخر تک کی تمام تفصیلات درج کی جاتی ہیں۔ پرنٹ میڈیا میں اگر کوئی کہانی شائع کی جاتی ہے تو اسے بغیر کسی تبدیلی کے جوں کا توں شائع کر دیا جاتا ہے۔ لیکن





الکٹر انک میڈیا میں نشر ہونے والے پروگرام کا تعلق اس کی پیش کش سے ہے اس لیے کسی مشہور کہانی کو بھی بغیر تبدیلی کے من و عن پیش نہیں کیا جاتا۔ پہلے کہانی کو بنیاد بنا کر اسکرپٹ تیار کی جاتی ہے پھر اس کی پیش کش کا مرحلہ آتا ہے۔ مثال کے طور پر پریم چند کی کہانی ”عیدگاہ“ اگر کسی کتاب یا رسمے میں شائع ہوگی تو پریم چند کے اصل متن کو شائع کر دیا جائے گا۔ اس میں کوئی تبدیلی یا اصلاح نہیں کی جائے گی۔ البتہ اگر اسی کہانی کو تیڈیں۔ وی یا فلم اسکرین پر پیش کرنا ہے تو پھر پریم چند کا اصل متن کافی نہیں ہو گا۔ اس متن کو اسکرپٹ کی صورت میں ڈھالنا ہو گا۔ کہانی کی پیش کش سے متعلق تمام تفصیلات درج کی جائیں گی۔ یہ بتایا جائے گا کہ کہانی کے آغاز میں پریم چند نے جو منظرِ غنوں میں بیان کیا ہے اس کی تصویری پیش کش کے لیے پروگرام کے بدایت کار کو کن کن مناظر کی تصویریں پیش کرنی ہیں۔ اسکرپٹ میں یہ بھی تحریر کیا جائے گا کہ کہانی میں جو میانیہ (Narration) ہے وہ کسی کی زبان سے ادا ہو گا یا اسے مناظر کی صورت میں دکھایا جائے گا۔ مثلاً اسی کہانی میں عید کے دن حامد کی دادی کو اس اس وکھانے کے لیے اسکرپٹ نگار یہ تحریر کرے گا کہ ایک بوڑھی عورت کو اسکرین پر پیش کیا جائے جس کے چہرے پر اسی اور فکرمندی چھائی ہوئی ہے۔ وہ عید کے دن بھی فکرمند ہے کہ اس کا پوتا حامد عید کی نماز پڑھنے کس کے ساتھ جائے گا۔ میلے میں کچھ خریدنا چاہے گا تو کہاں سے خریدے گا۔ اسکرپٹ نگار نہ صرف یہ کہ مناظر کی جزئیات و تفصیلات تحریر کرے گا بلکہ وہ یہ بھی بتائے گا کہ کسی منظر کا دورانیہ (مدّت) کتنا ہو گا۔ اس کی پیش کش کا طریقہ کار کیا ہو گا۔ کردار کس کس مقام پر۔ کھڑے ہوں گے، بیٹھے ہوں گے یا لیٹھے ہوئے ہوں گے، یا کسی کام میں مشغول ہوں گے۔ وہ کرداروں کے حرکات و سکنات اور تاثرات بھی تحریر کرتا ہے۔ پھر ہر کردار کے مکالموں کو تسلسل کے ساتھ الگ الگ درج کرنا بھی اسکرپٹ نگار کی ذمہ داری ہے۔ اسکرپٹ نگار صوتی تاثرات یعنی موسیقی اور ساؤنڈ فیلٹس کے متعلق بھی ہدایات تحریر کرتا ہے۔ اسکرپٹ نگار پورے پروگرام یا کہانی کی تنجیح کو بھی پیش نظر رکھتا ہے اور اسے دلچسپ انداز میں اسکرپٹ میں پیش کرتا ہے۔

اسکرپٹ کہانی کی پیش کش کے لیے ہو کی ٹی۔ وی سیریل، یا فلم یا پھر موسیقی پر

سرگرمی 6.7

ایک اچھی اسکرپٹ کی خصوصیات پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ تبادلہ خیال کیجیے۔



بھی کسی پروگرام کی پیشکش کے لیے، ہر ایک میں بہت سی تکنیکی باتیں شامل ہوتی ہیں جو اسکرپٹ نگار کو اپنی اسکرپٹ میں تحریر کرنی ہوتی ہیں۔ جن باتوں کو ہم نے اوپر قدرے وضاحت سے بیان کیا تھیں نکات کی شکل میں یہاں تحریر کیا جا رہا ہے تاکہ ہمارے طالب علم یہ سمجھ لیں کہ اسکرپٹ میں بنیادی طور پر کون کون آئی باتیں شامل ہوتی ہیں۔

Original Idea or Basic Concept	بنیادی خیال
Synopsis	خلاصہ / تلخیص
Treatment	طریقہ کار
Shooting Script	منظر نامہ
Dialogue and Narrative	مکالمہ اور بیانیہ
Audio and Visual Continuity	بصری و سمعی تسلیل

پروگرام کی نوعیت کے اعتبار سے اسکرپٹ میں بھی تبدیلی آتی ہے۔ یعنی اُن وی سیریل کے لیے اسکرپٹ لکھنے کے تقاضے، غزل یا موسیقی پرمنی کی پروگرام کے لیے اسکرپٹ تیار کرنے کے تقاضوں سے مختلف ہوں گے۔ اسی طرح فلم صنعت کے اداکاروں کی خانگی اور فلمی مصروفیت کی گپ شپ پرمنی پروگرام کی اسکرپٹ میں چھٹارے دار اور پُر لطف زبان و بیان کا استعمال کیا جائے گا جب کہ خبروں کے سنجیدہ پروگرام کی اسکرپٹ میں سادگی اور ممتاز کاخیال رکھا جائے گا۔

الیکٹرانک میڈیا میں اسکرپٹ نگاری ایک ایسا فن ہے جس میں کیری بیز بنانے کے وسیع امکانات ہیں۔ ریڈی یو اور اُنی۔ وی سے نشر ہونے والے وہی پروگرام زیادہ مقبول ہوتے ہیں جن کی اسکرپٹ معاشرتی زندگی کو ذہن میں رکھ کر سادہ اور دلچسپ زبان میں تیار کی جاتی ہیں۔ اردو کے طالب علم کو اردو افساؤں، ناولوں، نظموں اور غزلوں کے مطالعے کے سبب معاشرتی زندگی کا گہرا شعور حاصل ہوتا ہے۔ ادب کے مطالعے سے وہ زبان و بیان یا اظہار کے ہتر و میلوں پر بھی قدرت حاصل کر لیتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ بڑی بڑی اور گہری باتوں کو کس طرح غزل کے ایک شعر میں سینا جاسکتا ہے۔ وہ اسکرپٹ لکھتے وقت اشعار کا استعمال کر سکتے ہیں، کہانیوں کا حوالہ دے سکتے ہیں۔ پخت اور بر جستہ مکالے تحریر کر سکتے ہیں۔ ضرورت





اس بات کی ہے کہ وہ اسکرپٹ نگاری کے ملکی تقاضوں سے پوری واقفیت حاصل کر لیں اور پھر اردو زبان و ادب کے اپنے مطالعے کو اسکرپٹ تحریر کرتے وقت بروئے کار لائیں۔

1.6 سینما / فلم

ایجاد ہوئی تو اس وقت Cinema یا Kinema کی جگہ Cinematograph کی جگہ Kinematograph کہا گیا۔ فرانس کے باشندے اسے Kinematograph کہا گیا۔ اس لفظ کی طوالت کی وجہ سے اسے مختصر Cinematograph کر لیا گیا اور پھر ہر جگہ یہی راجح ہو گیا۔ ایک لمبے وقت تک Cinema فلموں کا دور چلا۔

تیجارتی نقطہ نظر سے Veetaphone Corporation 1926 میں نیویارک میں Warnerbrothers Theatre میں 'ڈان جان' نامی فلم دکھائی گئی۔ یہ دنیا کی پہلی بولتی فلم تھی۔ یہیں سے سینما کو مقبولیت ملنی شروع ہوئی۔ ہندوستان میں سینما کا سفر 1896 سے شروع ہوتا ہے۔ اس کا آغاز فرانس کے اونیسٹر برادران نے کیا۔ وہ اسے سبھی لائے اور پھر گلکتہ اور دوسرے بڑے شہروں میں اس کی نمائش ہوتی۔

1913 میں ہندوستانی فلم انڈسٹری کے بنیاد گزار دادا صاحب پھاٹکے نے راجہ ہریش چندر نام کی فلم بنائی۔ اسے پہلی کمکل ہندوستانی فلم ہو نے کا اعزاز حاصل ہے۔ یہ 4 ریل کی فلم تھی جس کی مدت ایک گھنٹہ تھی۔ یہ ہندوستانی زبان کے ساتھ انگریزی میں بھی بنائی گئی تھی۔ دادا صاحب کو اسے بنانے میں بڑی وقت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ سرمایہ کی کمی کے علاوہ فلم



سرگرمی 6.8

ہمارے ملک کی فلم صفات میں فلمی تہروں سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے۔ ساتھیوں کے ساتھ تبادلہ خیال کیجیے۔



سرگرمی 6.9

ساتھیوں کے ساتھ اپنی کسی پسندیدہ فلم پر تبصرہ کیجیے اور بتائیے کہ آپ کے نزدیک وہ کہن خصوصیات کی حامل ہے؟



سازی کے آل جات بھی ایجاد کرنے پڑے، بالآخر انھیں کامیابی حاصل ہوئی۔

دوا صاحب چھا لکے کا پورا نام وہندی راج گوند چھا لکے تھا۔ ان کی پیدائش ایک روایتی خاندان میں ہوئی تھی مگر ان کی اختراعی طبیعت نے ان سے بہت کام لیے۔

فلمی تہرہ 1.6.1

ہندوستانی فلم صفات میں سب سے آسان کام فلموں کا تبصرہ ہی مانا جاتا ہے جب کہ بیرونی ممالک میں فلم بصرائے تسلیم کیا جاتا ہے جو فلم صفات میں معقول محنت کرنے کے بعد اس کے فن سے اچھی طرح واقف ہو گیا ہو۔ ایک تجربہ کار مبصر، فلم کی خوبیوں اور خامیوں کو بڑی کامیابی کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ وہ فلم کے پیچیدہ پہلوؤں کو اجاگر کرتا ہے۔ وہ اپنے تہرے سے رائے سازی کا بھی کام کرتا ہے۔

فلم مبصر سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ فلم سازی اور بہایت کاری کے رموز و نکات سے آشنا ہو۔ ایسے مبصرین کی رائے ناظرین کے ساتھ ساتھ پروڈیوسر اور ایٹیکٹر کے لیے بھی قابل قدر ہوتی ہے۔ فلم تبصرہ لکھنے کے لیے مندرجہ ذیل نکات پر توجہ ضروری ہے:

- فلم آرٹ کی گہری سمجھو ہو۔
- فلم سازی کے تمام پہلوؤں مثلاً اسکرپٹ، بہایت، شوٹنگ، اداکاری، نغمہ، موسیقی وغیرہ پر باریک ہنگاہ ہو۔
- اگر کوئی میں حقیقتاً جاندار ہے تو اس کا کریڈٹ ڈائریکٹر کو دیا جانا چاہیے یا رائٹر کو؟
- مکالموں کا سہارا لیے بغیر ڈائریکٹر نے کیمرے سے سکتی اور کیسی باتیں کی ہیں؟
- فلم میں کیا پیغام دیا گیا ہے؟ فلم کی انفرادیت کیا ہے؟
- اگر فلم میں کوئی نیا تجربہ یا اطريقہ کاراخیار کیا گیا ہے تو اس کی وضاحت کی جائے۔

فلم پر تبصرہ کرتے وقت کسی فلم کے پلاٹ، اس کے قصے، اس کے کردار، اس کے نفع، اس کی فنونگرانی سینمیوگرافی، اس کے مناظر، اس کے مکالمے، اس کے آغاز، ارتقا اور اختتام پر نظر رکھنی چاہیے۔ مثلاً فلم کی کہانی کا پس منظراً اگر تاریخی ہے تو اس کی زبان، اس کے مکالمے، اس کے کردار اور کرداروں کا لباس، فلم کے مناظر اسی زمانے سے مناسبت رکھنے والے ہیں کہ نہیں۔ فلم جس موضوع پر بنائی گئی ہے، وہ دیگر فلموں سے کس قدر مختلف ہے۔ فلم سے کیا پیغام دیا گیا ہے اور سماج پر اس کے کیا اثرات پڑ سکتے ہیں۔





فلم کی پیشکش میں طریقہ کار (Treatment) کی بڑی اہمیت ہے۔ اس لیے اس کی نشان وہی بھی ضروری ہے۔

تبرہ

ماجھی - دی ماونٹین میں

فلم ساز: نیمالا تھگنٹا، دیپا سانی **ہدایت کار:** کیتن مہتا
موسیقی: سندیپ شانڈلی، ہنیش سونک **نغمہ کار:** دیپک رولا، کیتن مہتا، کمار
تحریر: کیتن مہتا، انجم رجب علی، مبینہ رحیم کار
اداکار: تواز الدین صدیقی (درستھ ماجھی)، رادھیکا آپٹے (پھگوئیا، ماجھی کی بیوی)،
اشرف الحق (مگرو، ماجھی کا باپ)، ٹیگنا نشوھولیا (لکھیا، زمیندار) اور گورو
دویہی (آلوک جھا، صحافی)

ہماری فلمی دنیا ہمیشہ نئے تجربات سے گزرتی رہی ہے۔ ان دونوں سچے واقعات یا اہم شخصیات کی زندگی پر مبنی فلمیں بنانے کی روایت کو استھان حاصل ہوا ہے۔ بھاگ ملکھا بھاگ یا پانٹھ تو مر معروف شخصیات کی زندگی پر مبنی ان فلموں نے نہ صرف ناقدین فلم کو اپنی طرف متوجہ کیا بلکہ یہ عوام میں بھی مقبول ہوئیں۔ ماجھی - دی ماونٹین میں، بھی ایسی ہی ایک فلم ہے جو بھار کے ایک دور راز واقع گاؤں کے انتہائی پسمندہ درستھ ماجھی کی جدوجہداور عزم و حوصلے کی داستان ہے۔

یہ فلم 21 اگست، 2015 کو یلیز ہوئی تھی۔ درستھ ماجھی، اپنی زندگی میں پہاڑ کا سینا چیر کر عام لوگوں کے لیے سڑک بنانے کے سبب ماونٹین میں کے نام سے مشہور ہوا۔ ماجھی پسمندہ طبقے کا ایک غریب بندھوا مزدور ہے۔ جو 1960 سے بھار کے ضلع ”گیا“ کے نزدیک ”گھلوڑ“ میں اپنی بیوی پھگوئیا دیوی اور دیگر اہل خانہ کے ساتھ رہتا آیا ہے۔ اس کا گاؤں ایک پہاڑ کی وجہ سے دنیا کے باقی حصے سے کہا ہوا تھا۔ کسی دوسرے شہر یا قبیٹک پہنچنے کے لیے اس پہاڑ کے گرد لمبا چکر کاٹ کر پہنچنا پڑتا تھا جس کے سبب گاؤں کے لوگ بینا دی سہولت سے محروم تھے۔ ایک روز ماجھی کی بیوی پہاڑ کو چڑھ کر پار کرنے کی کوشش میں پھسل کر گرجاتی ہے اور شدید زخمی ہو جاتی ہے۔ زخمی بیوی کو پہاڑ کا چکر لگا کر قبیٹے کے اسٹال تک لے جاتے ہوئے کافی وقت گزر جاتا ہے اور اس کی موت



واقع ہو جاتی ہے۔ بیوی کی موت مانجھی کو توز کر رکھ دیتی ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر راستہ اتنا طویل نہ ہوتا تو اس کی زندگی بیوی کا بروقت علاج ہو جاتا اور وہ بخ سکتی تھی۔ وہ طے کرتا ہے کہ پہاڑ کو کاٹ کر قصبے تک منتظر استہ بنائے گا۔ جب مانجھی پہاڑ کاٹ کر راستہ بنانے لگا تو لوگ اسے خطی اور

بیوقوف کہنے لگے۔ لیکن 22 برس کی مسلسل اور تنہا محنت و مشقت کے بعد اس نے صرف ہمتوڑے اور جھینکی کی مدد سے 360 فٹ لمبا، 25 فٹ گہر اور 30 فٹ چوڑا راستہ بنایا۔ مانجھی کی موت 2007 میں ہوئی۔

فلم مانجھی، ایک معمولی انسان کی محبت، محنت اور جنون کی حیرت انگیز کارناٹے کی داستان ہے۔ اس میں دکھایا گیا ہے کہ اگر انسان میں حوصلہ اور جذبہ ہو تو وہ مشکل سے مشکل را سے گزر کر اپنی منزل پا سکتا ہے۔ فلم میں زمیندارانہ نظام کے جبرا اور پسماندہ طبقے کے احتصال کو بڑی بے باکی سے پیش کیا گیا ہے۔ مانجھی کے کردار میں احتجاج ہے۔ وہ ظلم کے خلاف آواز بلند کرتا ہے۔ جس کے لیے اسے زدو کوب بھی کیا جاتا ہے۔


فلم مانجھی عزم و حوصلہ، انسان دوستی اور قوم و ملک کے لیے خود کو وقف کرنے والے ایک عام ہندوستانی کی سبق آموز



داستان ہے۔ فلم میں ماجھی کے کردار کو نواز الدین صدیقی نے ادا کیا ہے اور اس کردار کو زندہ جاوید کر دیا ہے۔ ان کی زبان سے تکیہ کلام کے طور پر بار بار یہ جملہ ادا ہوتا ہے 'شاندار، جبر جست، جنہے باد (شاندار، زبردست، زندہ باد)۔ انھوں نے اس کردار کو اس طرح جیا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ وہی درست تھی ماجھی ہیں۔

فلم 'ماجھی' دی ماڈلین میں، موثر بیانیہ،

جاندار محبت، حوصلہ مندی، شدید جذبہ، انتہائی جنون اور قوتِ عزم کی کہانی ہے۔ فلم عمدہ فوٹوگرافی، بامعنی مکالے، دل کش موسیقی، شاندار ادا کاری اور کامیاب ہدایت کاری کی بہترین مثال ہے۔ فلم میں انٹروں سے پہلے جگہ جگہ مزاح اور رومان پیدا کر کے ناظرین کو شجیدہ پیغام کو قبول کرنے کے لیے فضا ہموار کی گئی ہے۔



1.7 انٹرو یو

انٹرو یو، ایک سنجیدہ اور فکری وہنی عمل ہے۔ ایک بامعنی انٹرو یو کرنا کسی چیز سے کم نہیں ہوتا۔ یہ کسی اصل پروگرام کی تخلیق کرنے جیسا ہی ہوتا ہے۔ انٹرو یو کسی اہم شخصیت، اعلیٰ عہدوں پر فائز کسی سرکاری افسر، آرٹ یا بنس کی دنیا سے متعلق کسی شخص یا پھر کسی عام آدمی سے ہو سکتا ہے۔ انٹرو یو لینے والے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس شخص کا انٹرو یو لینا ہے، اس کے متعلق تکمیل معلومات حاصل کی جائے۔

ایکشانک میڈیا میں انٹرو یو کرنے کے دو طریقے ہیں۔ وزیر اعظم یا صدر جمہوریہ کے ساتھ انٹرو یو کرنے کے لیے پبلک لیشن افسر یا پرنسپل انفارمیشن افسر کے بنائے گئے ڈیزاٹ کے مطابق ہی روپورٹ کو پانچ سیٹ تیار کرنا ہوگا اور اس کے لیے انتظامات کرنے ہوں گے۔ اگر یہ ایک ٹیلی ویژن انٹرو یو ہے تو کئی لوگ درکار ہوں گے۔ جیسے کمرہ میں، ساٹوڈ ریکارڈسٹ، لائنگ لینکینشین اور ساؤٹ لینکینشین وغیرہ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انٹرو یو کسی استوڈیو میں منعقد کیا جائے۔ ایسی صورت میں بھی کچھ مناسب انتظامات کرنے ہوں گے۔ ریڈیو ایکسپریس کے لیے ایک بہت اچھی ریکارڈنگ میشن کی ضرورت



6.10 سرگرمی

آپ ریڈیو اور ٹی وی پر بہت سے لوگوں کے انٹرو یو سنتے اور دیکھتے ہوں گے۔ انٹرو یو کے ضمن میں بنیادی نکات کی روشنی میں کسی انٹرو یو کا جائزہ لیجیا اور کلاس میں پیش کیجیے۔





ہوگی۔ اس میں خاص طور پر مانیکروfon اور لپیپل کا استعمال کیا جانا ضروری ہے جو باہری یا غیر ضروری آواز کو مانیکروfon میں جانے سے روکتا ہے۔ انٹرویوئنر کیے جانے والے پروگرام کا ٹرانس کرپشن کرنا بھی ضروری ہے۔ انٹرویو کے الگ جھسے بنارس کی پہلے سے ہی نشان دہی کر لینی چاہیے اور انٹرویو کو ضرورت کے مطابق ایڈٹ کر کے سلسلہ وار بنادیا چاہیے تاکہ اس میں تسلسل اور مناسبت برقرار رہے۔ اس کام کو انجام دینے کے لیے ایڈٹ ایڈیٹر کی ضرورت ہوگی۔

انٹرویو کی شروعات کسی ایسے سوال سے کرنی چاہیے جس کا دائرہ وسیع ہو۔ اس سے صحافی کو اس شخص کو پرکھنے کا موقع ملتا ہے اور ساتھ ہی اپنے سوالات کو تھیک سے ذہن نشین کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ انٹرویو کے دوران اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ روپورٹر کو کچھ ایسی اطلاعات مل جاتی ہیں جس کی اسے قطعی تو عنینی نہیں۔ ظاہر ہے کہ ان حالات میں روپورٹر کو ہذہنی طور پر پھر سے نئے سوالات کے لیے تیار رہنا ہو گا تاکہ انٹرویو کی سمت اور فقر غلط راہ پر نہ پڑنے پائے۔ انٹرویو کے دوران بہت زیادہ مداخلت نہیں کرنی چاہیے اور یہ بچیدہ سوالوں سے پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ جب تک انٹرویو دینے والا ہذہنی طور پر سکون محوس نہیں کرے گا تب تک کوئی کارآمد بات معلوم نہیں ہو پائے گی۔

1.8 اشتہار

آج کے دور کو اگر اشتہار کا دور کہا جائے تو غلط نہ ہو گا۔ طرز معاشرت، آداب زندگی، رہنمی، سہیں، خوردن و نوش، لباس، آرائش و زیبائش، تعلیم و تفریغ سے لے کر مذہب، سیاست وغیرہ سماج کے ہر شعبے میں اشتہار نے اپنی جگہ بنالی ہے۔ تعلیم کی تزویج اور صنعت کاری کے اثر کے نتیجے کے طور پر آدمی صارف (Consumer) بنا کرہ گیا ہے اور آج اس کی سرگرمی کا ہر فصلہ اشتہار کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کیا کھائیں گے، کیا پہنیں گے، کیسے گھر میں رہیں گے، کہاں پڑھیں گے، کہاں ٹریننگ لیں گے، کہاں فوکری کریں گے، کہاں اپنا کار و بار کریں گے، کہاں شادی کریں گے، معاشری ذرائع کہاں سے فراہم ہوں گے، ان سب کا فیصلہ کرنے میں اشتہار کا اہم روپ ہے۔

اشتہار عام طور پر کسی شے، ہنر، مہارت یا خدمت سے صارفین کو واقع کرتا ہے۔

6.11 سرگرمی

ریڈیو اور ٹی وی پر آپ دن رات بے شمار اشتہارات سنتے اور دیکھتے ہیں۔ ریڈیو اور ٹی وی اشتہار کی حقیقت، عنوان سے کاس کے طباکے درمیان ایک مباحثے کا انعقاد کر جیے۔





ان میں خریدنے کی خواہش بیدار کرتا ہے۔ بہت سی موجود اشیاء میں سے ایک کا انتخاب کرنے میں مدد کرتا ہے۔ کسی شے کے مخصوص برائٹ کے تین ان میں غبہت پیدا کرتا ہے۔

ریڈ یو، ٹی وی، رسائل اور اخبار کے ذریعے، پوسٹر، دیوار پر لکھی عبارتیں، بس، ٹرین اور سڑک پر بڑے بڑے مائنے کے ہو رہے گے، کھلیل کے میدان میں، سینما گھر میں، ریسکوراں میں اور جہاں بھی آپ جائیے اشتہار آپ کی نظریوں کے سامنے ہے۔ یا آپ کے دل و دماغ پر ہر وقت چھائے رہتے ہیں۔

1.8.1 ریڈ یو ای اشتہار

ریڈ یو سمی میڈیم ہونے کے باعث آواز کا جادو بکھیرتا ہے اور لمحہ بھر کے اندر نہ یوں، سمندروں اور دور دراز کے پہاڑوں سے گزرتا ہوا سات سمندر پار بیٹھے لوگوں تک اپنا پیغام پہنچاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس میڈیم کو اشتہار کے لیے موزوں سمجھا جاتا ہے۔ ہندوستان میں 1957ء میں وودھ بھارتی کے کمرشیل پروگرام کے ساتھ ریڈیو ای اشتہار کی ابتداء ہوئی۔ ریڈ یو اشتہار میں لفظ اور آواز کی اہمیت ہے۔ کم سے کم لفظوں میں مؤثر اشتہار دل کو چھو لیتے ہیں۔ اگرچہ ریڈ یو سے نشر کیا گیا اشتہار خنصر ہوتا ہے۔ تاہم بار بار نشر ہونے کے باعث سامعین کے ذہن میں ایسی جگہ بنایتا ہے کہ اسے کبھی بھلا کیا نہیں جاسکتا ہے۔ عمومہ موسیقی اور مؤثر مکالموں کے ذریعے نشر کیا گیا اشتہار سامعین کے دل و دماغ پر پنادی پا اثر چھوڑ جاتا ہے۔ ان دونوں صنعتیات یا خدمات کے اشتہارات کے ساتھ ایک ٹیگ لائن نشر کرنے کی روایت قائم ہو گئی ہے۔ یہ ٹیگ لائن حتیٰ آسان، سہل اور مربوط ہو گئی تھی اس کی مقبولیت میں اضافہ ہو گا۔ مثلاً حکومت کی جانب سے پولیوکی دو اپالے ہے۔ یہ ٹیگ لائن کا حصہ بھی آسان، سہل اور مربوط ہو گئی تھی اس کی مقبولیت میں اضافہ ہو گا۔ مثلاً حکومت کی جانب سے پولیوکی دو اپالے ہے۔ یہ ٹیگ لائن کے اشتہار میں دو بوند زندگی کی، یا ایل آئی سی کے اشتہار میں زندگی کے ساتھ بھی زندگی کے بعد بھی، جیسی ٹیگ لائن سامعین کے ذہن کا حصہ بن جاتی ہیں۔ یہ ٹیگ لائن منتفع ہی فوراً ان کا ذہن اس چیز یا خدمت کی طرف منتقل ہو جاتا ہے جس کی تشهیر کی گئی ہے۔ اس طرح اگر آپ اپنی تجییقی صلاحیتوں کو بروئے کارلاتے ہوئے کسی چیز یا خدمت کے اشتہار کے لیے کوئی ٹیگ لائن وضع کرتے ہیں تو ممکن ہے کہ وہ عوام کی زبان کا مقبول فقرہ بن جائے۔

1.8.2 ٹی وی اشتہار

ٹی وی سمی اور بصری دونوں میڈیم ہونے کی وجہ زیادہ مؤثر اور طاقت ور میڈیم ہے۔ ٹی وی۔ ایک ایسا مقبول وسیلہ ہے جس کی رسائی عوام کے بہت بڑے حصے تک ہے۔ اس لیے بڑی بڑی کمپنیاں اپنی مصنوعات کی تشهیر کے لیے ٹی وی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرتی ہیں۔ حکومت بھی اپنی پالیسی یا اسکیم کی تشهیر کے لیے ٹی وی پر اشتہار دیتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ٹی وی کے بعض اشتہارات اتنے مقبول ہیں کہ ہم انھیں بار بار دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ عام طور پر ٹی وی اشتہارات دس، بیس یا تیس سینئنڈ کے ہوتے ہیں۔ اس قابل مدت کے اندر کسی چیز کی اہم ترین خصوصیت کو اجاگر کرنا ہوتا ہے۔ ناظرین پر یہ تاثر قائم کرنا ہوتا ہے کہ جس چیز کا اشتہار وہ دیکھ رہے ہیں وہ سب سے زیادہ کارآمد اور استعمال میں آسان ہے۔ ان تمام پہلوؤں کو میڈی نظر کھر کر ٹی وی اشتہار بنائے جاتے ہیں۔ ٹی وی اشتہار



بنانے سے قبل اس کی اسکرپٹ تیار کی جاتی ہے۔ اس کے لیے زیادہ سے زیاد تحقیقی صلاحیت کی ضرورت پیش آتی ہے تاکہ بڑی بڑی باتوں کو کم سے کم الفاظ میں اس طرح پیش کیا جاسکے کہ بھرپور تاثر قائم ہو۔

1.9 ریڈی یو اور ٹی وی انکرنس

انگریزی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں ”لنگر ڈالنا“ پانی کے جہاز یا غبارے کو باندھنے کا لنگر۔ الکٹر انکر میڈیا میں انکر اسے کہتے ہیں جس کی مدد سے پورا پروگرام ایک دھانگے میں پریا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ ریڈی یو اور ٹی وی میں انکر اپنے ادارے کا چہرہ ہوتا ہے۔ ریڈی یو میں تو انکر سامعین کی نظر وہ کے سامنے نہیں ہوتے لیکن اپنی آواز کا جادو بکھیر کر سامعین کے ایک بڑے طبقے کو اپنا ہم خیال بناتے ہیں۔ اس کے برعکس ٹی وی میں وہ ناظرین کے سامنے ہوتے ہیں۔

انکرنس صحافت کی ایک شاخ کی شکل میں پروان چڑھی ہے۔ جب بات ریڈی یو کی آتی ہے تو سب سے پہلے ابھر کر سامنے آتی ہے، آواز۔ یعنی ریڈی یو پورے طور پر آواز کی دنیا ہے۔ اس لیے ریڈی یو انکر کی آواز بہت صاف سخنی اور لائق ساعت ہونی چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ ریڈی یو میں آواز ہی انکر کی سب سے بڑی پوچھی ہے۔ دوسرا یہ کہ ریڈی یو میں انکرنس کرتے وقت تنفس کا خاص خیال رکھنا چاہیے کیوں کہ ریڈی یو کو تنفس کے لیے معیاری ادارہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس لیے انکر کو اس روایت کو برقرار رکھتے ہوئے پروگرام کی پیش کش کرنی ہوگی کہ جو کچھ بولا جائے وہ درست ہو اور سامع آپ کے تنفس کو مثالی مان کر سیکھ سکے۔ ریڈی یو انکرنس میں آواز کے زیر و بم پر بھی خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ اس کے برعکس ہندوستان کے نجی نیوز چینلز اب ایسے انکر ز کا انتخاب کرتے ہیں جو زبان اور فطری پیش کش پر تو گرفت رکھتے ہیں ہوں، ساتھ ہی واقعات کا تیزی سے تجزیہ کر سکتے ہوں اور عصری موضوعات پر ہمارت رکھتے ہوں۔ اب انکرنس ایک ایسی ذمے داری کی شکل میں ابھری ہے جسے کامیابی کے ساتھ پورا کرنے کے لیے سخت محنت، لگن اور مطالعے کی ضرورت ہے۔ عصری موضوعات پر گہری نظر اور تجزیاتی نظریہ مطالعے سے ہی حاصل کیا جاسکتا ہے۔ انکر کی بنیادی صفات کو اس طرح تقسیم کیا جاتا ہے۔

6.12 سرگرمی

انکر کی بنیادی خصوصیات کی روشنی میں ریڈی یو، ٹی وی کے کسی پروگرام میں انکر کے روں کا جائزہ لیجیے اور اپنے ساتھیوں کے درمیان پیش کیجیے۔





• آواز اور بولنے کا اشائیں

• خبر سے تعارف • زبان کا علم اور درست تلفظ

• خبر سے تعارف

اینکر کو کسی خبر کے حال کے ساتھ ہی اس کے پس منظر سے بھی واقع ہونا چاہیے۔ اس میں اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ خبر کی معروضیت کو سمجھ سکے۔ اینکر اگر کسی خبر کو غلط پڑھتا ہے تو اس کا سب سے پہلا اثر خود اسی کی شبیہ پر پڑتا ہے۔ اس لیے اینکر کو خبروں کی دوڑتی بھاگتی دینا سے رابطہ قائم رکھنا چاہیے۔

• آواز اور بولنے کا اشائیں

ویسے تو ہر انسان کی آواز اور بولنے کا طریقہ دوسرا سے الگ ہوتا ہے لیکن اینکرنگ کرتے وقت اپنے اشائیں پر مسلسل نگاہ رکھنی ضروری ہے۔ اینکر کی آواز نہ صرف موثر ہونی چاہیے بلکہ زیر و بم میں بھی مناسبت ضروری ہے۔ اینکر خواہ کتنا ہی تجربہ کار کیوں نہ ہو، ٹیلی کاست سے پہلے اسے نیوز اسٹوری کو بار بار پڑھنے کی عادت برقرار رکھنی چاہیے۔ اینکر اس بات کا دھیان رکھتا ہے کہ کس لفظ پر زیادہ زور دینا ہے اور کس پر کم۔ بولنے کی رفتار میں مناسبت ہونی چاہیے۔ جملوں کے درمیان میں صحیح موقعوں پر بکاؤ فرمہ لینا ہے بھولیں۔

• زبان کا علم اور درست تلفظ

جیسا کہ پہلے ذکر آیا ہے اینکر کے لیے زبان کا علم اور صحیح تلفظ ضروری ہے۔ اس لیے نیوز اینکر خبریں پڑھنے وقت تلفظ کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ اگر کسی لفظ کے تلفظ میں شبہ ہوتا ہے تو ماہرین سے معلوم کر لیتے ہیں یا لغت وغیرہ سے رجوع کرتے ہیں۔ غیر ملکی ناموں کے تلفظ کی ادائیگی سے قبل ان کا درست تلفظ معلوم کر لینا بھی ضروری ہے۔

• جسمانی زبان Body Languages

جسم کی اپنی ایک زبان ہوتی ہے جو براہ راست یا با لواسطہ اپنی بات کہتی ہے۔ مثال کے طور پر تکلیف پہنچانے والی خبروں کو مسکرا کرنا پڑھیں اور مجرم یا متاثرہ شخص پر غلطی سے بھی طنز یا انداز نہ ظاہر کریں۔ اینکرنگ کے وقت پورا جسم حمایاط اور چیزہ تازگی اور بثاشت سے بھر پور ہونا چاہیے۔

